

45910 - گھر خریدنے کے لیے سودی قرض لینا

سوال

ہم (48) فلسطینی لوگ لوگوں کو وزارت فراہمی رہائش سے پچیس برس کے لیے قرض حاصل کر رہے ہیں، جس میں کچھ رقم تو بہہ ہے اور باقی رقم فائد (یعنی سود) کے ساتھ ماہانہ قسطوں میں ادا کرینگے، اور اگر قرض لینے والا ادائیگی سے ایک برس لیٹ ہو گیا تو وزارت کو اس کا گھر کسی دوسرے شخص کو فروخت کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

اور قرض کے معاہدے میں ایک اور بھی شرط یہ ہے کہ معاہدے پر دستخط کرنے والے میاں اور بیوی میں سے ایک کی موت کی حالت میں دوسرے کو ادائیگی معاف کر دی جائیگی، اور وزارت کو قرض واپس کرنے کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں رہے گا۔ یہ علم میں رہے کہ اگر کوئی شخص قرض حاصل کیے بغیر گھر تعمیر کر لے تو اس سے بہت لمبی چوڑی پوچھ گچھ اور تفتیش ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی - ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ سود یہودیوں میں ایک واضح اور ظاہر علامت ہے، اور عمومی طور پر حرام مال کھانے کے حیلے ان میں عام ہیں، اور خاص کر ان میں سود خوری تو معروف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے متعلق اس کا ذکر کیا ہے، اور انہیں اس سے منع کرتے ہوئے ان کے لیے اسے حرام قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

جو پاکیزہ اور نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ان یہودیوں کے ظلم کے باعث ان پر ہم نے حرام کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود لینے کے باعث حالانکہ انہیں سود لینے سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے اور ان میں سے جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے النساء (160 - 161) .

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان - یہودیوں - کو سود کے لین دین سے منع کیا تھا، تو انہوں نے سود لیا اور سوخوری کی، اور

سود لینے میں کئی قسم کے حیلے اور کئی انواع کے شبہات اختیار کیے، اور لوگوں کو ناحق مال کھایا۔

دیکھیں: تفسیر ابن کثیر (1 / 584)۔

اور ان یہودیوں کا آپ لوگوں سے سود لینا، اور اس سود میں آپ لوگوں کو ڈالنا اور قریب کرنا، اور ادائیگی نہ کر سکنے کی صورت میں آپ کے گھر اور عمارت پر قبضہ کر لینا ان کے منحرف دین اور ان کے خسیس قسم کے معاملات میں معروف اور عام ہے، یہودیوں نے سود کی حرمت والی نص کو صرف اپنے اندر ہی مقتصر کر رکھا ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے سودی لین نہیں کرنا حرام قرار دیتے ہیں، لیکن غیر یہودی کے ساتھ وہ سودی لین دین ہی کرتے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ انہوں نے سود کو جائز کر لیا اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، اور دوسروں کی املاک پر قبضہ کرنے کا انہوں نے یہی طریقہ اپنا رکھا ہے۔

ان کا ایک ربی (یہودی عالم) راب کہتا ہے:

جب کسی نصرانی اور عیسائی کو دراہم کی ضرورت ہو تو یہودی کو چاہیے کہ وہ اس پر ہر طرف سے قابض ہو جائے، اور فاحش سود پر سود زیادہ کرتا چلا جائے، حتیٰ کہ وہ اس کی ادائیگی سے قاصر ہو کر عاجز آ جائے، اور اسے اس وقت تک پورا نہ کر سکے جب تک اپنی املاک سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھے، یا پھر سود کے ساتھ مال اتنا بڑھ جائے کہ وہ نصرانی کی املاک کے برابر ہو جائے، اور اس وقت یہودی اپنے مقروض شخص کی املاک پر حکمران کی مدد سے قابض ہو جائے گا۔

دیکھیں: الربا و اثره على المجتمع الانساني تالیف ڈاکٹر عمر بن سلمان الاشقر صفحہ نمبر (31)۔

دوم:

اسلام میں سود حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے حکم میں مسلمانوں کا آپ میں سودی لین دین کرنے، یا غیر مسلم کے ساتھ مسلمان کا سودی لین دین کرنے میں کوئی فرق نہیں، اور وہ قرض جس میں قرض دینے والا یہ شرط رکھے کہ واپس کرتے وقت زیادہ رقم دینا ہوگی، یہ سودی قرض ہے اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کا لین دین کرنے والا اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں سزا اور وعید کا مستحق قرار دیتا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہونگے مگر جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبطی بنا دے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں خرید و فروخت تو سود کی طرح ہی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت حلال کی ہے، اور سود کو حرام کیا ہے، تو جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت آگئی تو وہ اس سے

باز آگیا تو اس کے لیے وہی ہے جو گزر چکا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جو کوئی (اس کی طرف) دوبارہ لوٹا یہی جہنمی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے البقرة (275) .

اور حدیث میں ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" میں آج رات دو آدمیوں کو دیکھا وہ میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدس (بیت المقدس) کی جانب لے گئے، تو ہم چلے حتیٰ کہ ایک خون سے بھری ہوئی نہر کے پاس پہنچے جس میں ایک شخص کھڑا تھا، اور نہر کے درمیان ایک شخص تھا اس کے سامنے پتھر رکھے تھے، جو شخص نہر میں تھا وہ آیا اور جب نہر سے نکلنا چاہا تو اس شخص نے اسے پتھر مارے اور جہاں وہ تھا اسے وہی واپس بھیج دیا، اور جب بھی وہ باہر نکلتا چاہتا اسے پتھر مارے جاتے اور وہ واپس اپنی جگہ چلا جاتا، میں نے کہا: یہ کیا ہے ؟ تو اس نے کہا: آپ جسے نہر میں دیکھا تھا وہ سود خور تھا "

صحیح بخاری حدیث نمبر (1979) .

اور ایک دوسری حدیث میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" سات ہلاک کر دینے والی اشیاء سے بچ کر رہو، صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی اشیاء ہیں ؟

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" شرك کرنا، جادو، اس نفس کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے ناحق قتل کرنا حرام کیا ہے، سود کھانا، اور یتیم کا مال پڑپ کرنا، اور لڑائی سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا، اور غافل اور مومن عورتوں پر بہتان لگانا "

صحیح بخاری حدیث نمبر (2615) صحیح مسلم حدیث نمبر (89)

اور حکم کے اعتبار سے سود خور - جو کہ یہاں بنك ہے - اور سود کھلانے والا - جو سود پر قرض لینے والا ہے - اور گواہی دینا والے اور لکھنے والا سب برابر ہیں ان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔

جابر عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ:

" رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور سود کھلانے اور اسے لکھنے، اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی، اور فرمایا وہ برابر ہیں "

صحیح مسلم حدیث نمبر (1598)۔

مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء سے سوال کیا گیا:

کیا بنک کے ساتھ لین دین کرنا سود ہے یا کہ جائز ؟

کیونکہ بہت سے شہری بنک سے قرض حاصل کر رہے ہیں ؟

کمیٹی کے علماء کا جواب تھا:

"مسلمان شخص کے لیے کسی سے بھی سونا یا چاندی یا نقد رقم اس شرط پر لینی حرام ہے کہ وہ اس سے زیادہ واپس کریگا، چاہے قرض دینے والا بنک ہو یا کوئی اور؛ کیونکہ یہ سود ہے جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے کبیرہ گنا ہے، اور جو بنک بھی اس طرح کا لین دین کرتا ہے وہ سودی بنک ہے۔

دیکھیں: فتاویٰ اسلامیہ (2 / 412)۔

اس بنا پر آپ کے لیے ان بنکوں سے قرض لینا جائز نہیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ صریحا حرام کردہ سود کا لین دین کر رہے ہیں، آپ کے لیے اپنی عمارت اپنے حلال مال سے تعمیر کرنی ممکن ہے، اور اس مال کو کئی ایک طریقوں سے ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ بنک کے تعاون کے بغیر گھر تعمیر کرنے والا ہر شخص چور یا ڈاکو نہیں ہو سکتا۔

حلال کمائی اور آمدن سے مال حاصل کرنے کے طریقے بہت وسیع اور زیادہ ہیں، اور جو شخص آپ کے معاملے میں شک کا شکار ہو اسے اس کا ثبوت دیا جا سکتا ہے، اور توثیق کروائی جا سکتی ہے، اور یہ کوئی ایسا معاملہ اور کام نہیں جو طاقت اور قدرت سے باہر ہو۔

سود کی حرمت کا بیان، اور اس کے ذریعہ گھروں کی تعمیر اور خرید و فروخت کی حرمت کا بیان سوال نمبر (21914) اور (22905) کے جوابات میں ہو چکا ہے۔

واللہ اعلم .